

سندھ ایکٹ نمبر XIX مجریہ ۱۹۹۴

## SINDH ACT NO.XIX OF 1994

سندھ سول سرونٹس (ایڈہاک مقرریوں کی مستقلی) ایکٹ،  
۱۹۹۴

### THE SINDH CIVIL SERVANTS (REGULARIZATION OF ADHOC APPOINTMENTS) ACT, 1994

#### فہرست (CONTENTS)

تمہید (Preamble)

دفعات (Sections)

۱۔ مختصر عنوان اور شروعات

Short title and commencement

۲۔ تعریف

Definitions

۳۔ کچھ سول سرونٹس کی ملازمت کی مستقلی

Regularization of services of certain civil servants

سندھ ایکٹ نمبر XIX مجریہ ۱۹۹۳

## SINDH ACT NO.XIX OF 1994

سندھ سول سرونٹس (ایڈہاک مقرر یوں کی  
مستقلی) ایکٹ، ۱۹۹۴

### THE SINDH CIVIL SERVANTS (REGULARIZATION OF ADHOC APPOINTMENTS) ACT, 1994

[۲۸ جولائی ۱۹۹۴]

ایکٹ جس کی توسط سے ایڈہاک بنیاد پر مقرر کردہ  
کچھ سول سرونٹس کی ملازمت کو مستقل کیا جائے  
گا۔

تمہید (Preamble)

جیسا کہ ایڈہاک بنیاد پر مقرر کردہ کچھ سول  
سرونٹس کی ملازمت کو عوامی مفاد میں مستقل کرنا  
مقصود ہے، جو اس طرح ہوگا؛

مختصر عنوان اور  
شروعات

اس کو اس طرح عمل میں لایا جائے گا:

Short title and  
commencement

۱۔ (۱) اس ایکٹ کو سندھ سول سرونٹس (ایڈہاک  
مقرر یوں کی مستقلی) ایکٹ، ۱۹۹۴ کہا جائے گا۔  
(۲) یہ فی الفور نافذ ہوگا۔

تعریف

Definitions

۲۔ (۱) اس ایکٹ میں، جب تک مفہوم کچھ دوسرا  
طلب نہ کرے تب تک:

(a) "ایکٹ" مطلب سندھ سول سرونٹس ایکٹ،  
۱۹۷۳؛

(b) "کمیشن" مطلب سندھ پبلک سروس کمیشن؛

(c) "حکومت" مطلب حکومت سندھ؛ اور

(d) "عہدہ" مطلب حکومت کی طرف سے

کچھ سول سرونٹس  
کی ملازمت کی

صوبے کے معاملات سے متعلقہ منظور شدہ  
عہدہ۔

مستقلی  
Regularization  
of services of  
certain civil  
servants

(۲) "ایڈہاک مقرری" اور "سول سرونٹ کے اظہاروں" کو ترتیبوار وہ ہی معنی ہوگی جو ان کو اس ایکٹ میں دی گئی ہے۔

۳۔ (۱) اگر اس ایکٹ یا رولز کے تضاد میں نہیں، یا کسی فیصلے کے خلاف نہیں، یا کورٹ کی طرف سے دیئے گئے کسی آرڈر یا فتویٰ کے متضاد نہیں ہے، لیکن اس ایکٹ کی کن گنجائشوں کے مطابق کوئی سرکاری ملازم بیسک پے اسکیل ۱۶ کی جگہ پر ایڈہاک ملازمت کرتا ہے اور اس ایکٹ کے نافذ ہونے کے وقت ملازمت میں ہے، تو اس سلسلے میں کیئے گئے احکامات کے تحت، اس عہدی پر کارگر طریقے مقرر کردہ اور اس ایکٹ کی شروعات سے مستقل بنیاد پر مقرر سمجھے جائیں گے۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت آرڈر تب تک نہیں نکالے جائیں گے جب تک ایسے سول سرونٹس کے تفصیلات، ان کی تعلیمی قابلیت، تجربہ، عمر اور ڈومیسائل کی جگہ کی جانچ پڑتال نہ کی جائے اور حکومت کی طرف سے مقرر کردہ خاص کمیٹی کی طرف سے کلیئر قرار نہ دیا جائے۔

(۳) ذیلی دفعہ (۲) کے تحت قائم کردہ خاص کمیٹی کی رہنمائی متعلقہ محکمہ کا سیکریٹری انچارج کرے گا اور دوسروں میں اس محکمہ اور سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن محکمہ میں سے ایک ایک میمبر شامل ہوں گے۔

۳۔ جہاں کمیشن، کسی شخص کے کیڈر یا ملازمت میں عہدے پر مقرری کی اس ایکٹ کی شروعات سے پہلے سفارش کی ہے، ایسے شخص کو ترجیح دی جائے گی۔

**نوٹ: ایکٹ کا مذکورہ ترجمہ عام افراد کی واقفیت کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔**